



شاید تم اپنے امام کے پیچھے (کچھ) پڑھتے ہو؟ ہم نے عرض کیا: جی ہاں یا رسول اللہ! یہی بات ہے آپ نے فرمایا (امام کے پیچھے) سورہ فاتحہ کے علاوہ کچھ مت پڑھا کرو کیونکہ سورہ فاتحہ کے بغیر نماز نہیں ہوتی

عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ ہم رسول اللہ ﷺ کے پیچھے نماز فجر پڑھ رہے تھے آپ نے قراءت شروع کی مگر آپ نے کہہ لیا (قرآن) پڑھنا مشکل ہو گیا جب آپ نے نماز سے فارغ ہو گئے تو آپ نے فرمایا: شاید تم اپنے امام کے پیچھے (کچھ) پڑھتے ہو؟ ہم نے عرض کیا: جی ہاں یا رسول اللہ! یہی بات ہے آپ نے فرمایا: (امام کے پیچھے) سورہ فاتحہ کے علاوہ کچھ مت پڑھا کرو کیونکہ سورہ فاتحہ کے بغیر نماز نہیں ہوتی

[حَسَنُ] [اسے امام ترمذی نے روایت کیا ہے - اسے امام ابو داؤد نے روایت کیا ہے - اسے امام احمد نے روایت کیا ہے]

عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ ہم رسول اللہ ﷺ کے پیچھے نماز فجر پڑھ رہے تھے آپ نے قراءت شروع کی مگر آپ نے کہہ لیا (قرآن) پڑھنا مشکل ہو گیا، یعنی آپ نے کہہ لیا قرأت کرنا مشکل ہو گیا جب آپ نے نماز سے فارغ ہوئے تو فرمایا: کہ شاید تم اپنے امام کے پیچھے قرأت کرتے ہو؟ اس پر صحابہ کرام نے جواب دیا کہ جی ہاں، یا رسول اللہ! گویا کہ نبی نے تلاوت کرنا مشکل ہو رہا تھا لیکن آپ کو اس کی وجہ معلوم نہ تھی اسی لیے آپ نے صحابہ سے پوچھا جیسا کہ ایک دوسری روایت میں ہے کہ آپ نے فرمایا: کیا بات ہے کہ میں قرآن کی تلاوت میں الجھ رہا ہوں؟ ہو سکتا ہے کہ اس بوجھل پن کا سبب اس نقص کی وجہ سے ہو جو ان کے آپ کی قرأت پر اکتفا نہ کرنے کی وجہ سے پیدا ہوا ہو اور کامل شخص اپنے پیچھے موجود لوگوں کے نقص کی وجہ سے متاثر ہوتا ہے سنت یہ ہے کہ مقتدی خاموشی سے پڑھے بایں طور کہ ہر کوئی اپنے آپ کو سنائے نماز میں سورہ فاتحہ کی قراءت اکیلے نماز پڑھنے والا، امام اور مقتدی سب پر واجب ہے نماز ساری ہو یا جبری کیونکہ بطور خاص سورہ فاتحہ پڑھنا دلائل سے ثابت ہے پھر آپ نے صحابہ کرام کو دایت فرمائی کہ وہ سورہ فاتحہ پڑھنے کا اتمام کریں: ”صرف سورہ فاتحہ پڑھا کرو“ ہو سکتا ہے کہ یہاں ممانعت جہرا پڑھنے سے ہو اور ہو سکتا ہے کہ ممانعت کا تعلق فاتحہ سے زائد پڑھنے کے ساتھ ہو یہ حکم اس لیے دیا تاکہ امام اور نمازی حضرات تشویش میں نہ پڑیں

<https://sunnah.global/hadeeth/ur/show/10910>

